

SALTOC Project

Title: Islām aur 'aṣr-i-jadīd

Imprint: Na'ī Dillī: Muḥammad Hafīzuddīn

New Delhi: Zakir Husain Institute of Islamic Studies,  
Jamia Millia Islamia University

OCLC: 6727848

Volume 12, no. 4, October 1980

TOC Supplied By: Center for Research Libraries

Jadid

R. N. 17614/96

# ISLAM AUR ASR-I-JADEED

Vol. XII No. 4

October 1980

Zakir Husain Institute of Islamic Studies,  
Jamia Millia Islamia, Jamia Nagar, New Delhi-110025

## کیا آپ کی روزانہ کی خوراک سے آپ کے بدن کو پوری قوت اور پورا فائدہ ملتا ہے؟



اپنی روزمرہ خوراک سے صحیح تغذیہ حاصل کرنا  
اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا نظام ہضم کتنا  
ٹھیک اور طاقتور ہے۔

سنکارا ہی ایک ایسا ٹانک ہے جس میں  
طاقت دینے والے ضروری وٹامنوں اور معدنی  
اجزاء کے ساتھ چھوٹی الائچی، لونگ، دھنیا،  
دارچینی، تیز پات، تلسی وغیرہ جیسی چودہ جڑی  
بوٹیاں شامل ہیں۔ اس مرکب سے آپ کے  
نظام ہضم کو طاقت ملتی ہے اور آپ کا بدن  
اس کی مدد سے آپ کی روزمرہ خوراک سے  
صحیح تغذیہ اور بھرپور قوت حاصل کرتا ہے۔

## سنکارا

ہر موسم اور ہر عمر میں  
سب کے لیے بے مثال ٹانک

HD-5949 AU

سکلر د

## فہرست مضامین

- ۵ ضیاء الحسن فاروقی ۱- اسلامی فنڈامنٹل ازم (اداریہ)
- پروفیسر جمال خواجہ ۲- اسلامی تصور کائنات
- ترجمہ: ڈاکٹر محمد ذاکر مولانا محمد علی کی نظر میں
- ۱۳ (ایک جائزہ)
- ۲۵ مولانا ابو العرفان خاں ندوی ۳- نصاب تعلیم اور طریقہ درس
- موجودہ عہد کے تقاضے
- ۲۹ ڈاکٹر عماد الحسن آزاد فاروقی ۴- ہندو مذہب
- ڈاکٹر سعید نعیم الدین ۵- مولانا رومی اور اقبال
- برہمنی مت کا ارتقاء